



مفردون سبقت لہ گئے

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے میں محو سفر تھے دوران سفر جُمدان نامی ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے تو فرمایا: ”چلتے رہو۔ یہ جمدان ہے مفردون سبقت لہ گئے“ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں“
[صحیح] [اسلم مسلم نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کثرت اللہ کا ذکر کرنے والوں کا مقام بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ان کو بے امتیازی شان حاصل ہو گیا ہے وہ دوسروں سے آگے بڑھ کر جنت کے اونچے درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے ان کی تشبیہ جُمدان پہاڑ سے دی ہے، جو دیگر پہاڑوں سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3719>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

